



## رہنما نیا بار ک مڈر، گرہو ایشن کے حوالے سے اقدامات (منصوبہ بندی) کا جائزہ؛ 5 رنما سہ الات

1. ہم طالب علموں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ گریجوایشن سے پہلے کیا جانتے ہوں اور کیا کرنے کے قابل ہوں؟  
درج ذیل کو مد نظر رکھیں:

- اپنے نصاب سے متعلق علم اور مہارتیں یعنی مواد
- سماجی جذباتی علم اور مہارتیں
- شہری امور سے متعلق تیاری کا علم اور مہارتیں
- تنوع کا احترام کریں اور مساوات اور شمولیت (ادخال) کے بارے میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔
- ایک فارغ التحصیل (گریجو ایٹ) طالب علم / 21ویں صدی کی تصویر اور دیگر مہارتیں: گریجوایشن کے زندگی بھر سیکھنے اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے کون سی مہارتیں، رغبت (جھکاؤ) اور ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے؟
  - یعنی ہمدردی، بات چیت، اشتراک، سنجیدہ سوچ، مسائل حل کرنا، اپنے آپ کو تحریک دینا، مختلف پہلوؤں سے تاریخ اور موجودہ واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور مساوات کے حامل ذہن کے ساتھ مسائل کو نمٹانے کی صلاحیت۔

2. ہم طالب علموں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے علم اور مہارتوں کی کس طرح وضاحت کریں جب کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ثقافت، زبان اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں؟  
درج ذیل کو مد نظر رکھیں:

- تجربات کے ذریعے سیکھنا
- پورٹ فولیوز (کیے گئے کام کی مثالیں / نمونہ جات)
- نصابی کام
- کام کا تجربہ / انٹرشپ
- منصوبہ جات
- کمیونٹی سروس
- جانچ

3. ہم طالب علموں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے علم اور مہارتوں کی کس طرح وضاحت کریں جب کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ثقافت، زبان اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں؟

4. کامیابی کا اندازہ کس طرح ہماری خصوصی آبادی جیسا کہ معذور طلبا اور انگریزی سیکھنے والے افراد کی مہارتوں اور علم کی بہتر انداز میں عکاسی کرتا ہے؟

ذیل کو مد نظر رکھیں:

اس چیز کو زیر غور لائیں کہ آیا جانچ کے متبادل اقدامات خصوصی طالب علموں کے لیے دستیاب بنائے جانے چاہئیں یا نہیں، اور اگر ہاں تو ان کی کون سی اقسام ہونی چاہئیں؟ مثالوں میں درج ذیل شامل ہیں: منصوبہ جات (پراجیکٹس، پورٹ فولیوز وغیرہ)

5- کورس یا امتحانات میں ایسی کیا چیز شامل کی جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام طالب علم کالج، کیریئر اور شہری امور کے لیے تیار ہیں؟

ذیل کو مد نظر رکھیں:

کس طرح ریاضی، سائنس، ELA اور معاشرتی علوم کے امتحانات پاس کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا/مطالعہ کرنا ثانوی تعلیم کے بعد کے آپشنز کے لیے تیاری کی نشاندہی کرتا ہے جیسا کہ:

- دو یا چار سال کالج
- کیریئر سرٹیفکیٹ تربیتی پروگرامز
- انٹری لیول (ابتدائی) ملازمت
- فوج میں خدمات
- شہری امور میں شمولیت
- دیگر مواقع

دفتر بورڈ آف ریجنٹس

89 واشنگٹن ایونیو، کمرہ 110، البانی، NY12234

تیلی فون: (518) 474-5889

فیکس: (518) 486-2405

ای میل: [RegentsOffice@nysed.gov](mailto:RegentsOffice@nysed.gov)



New York State  
EDUCATION DEPARTMENT

Knowledge > Skill > Opportunity